



کشی جواز پر دل

مولف

افتخار حسن میاں

طالب دعا

محمد نواز گوندل و فرید نواز گوندل
محمد مصطفیٰ گوندل

پروف ریڈنگ

مفتی ممتاز احمد ربانی ایڈو وکیٹ شرعیہ ہائی کورٹ

برائے ایصال ثواب

حاجی غلام رسول گوندل

نور اللہ مرقدہ

بیداری میلاد النبی کے شرعی جواز پر دلائل

ہمارے آقا حضور نورِ حسم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری اور بعثت سے تخلیق کائنات کے عظیم مقصد کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گذشتہ تمام انبیاء و مرسیین علیہم الصلاۃ والسلام سے یہ عہد لیا تھا کہ جب نبی آخر الزمان ﷺ اس دنیا میں تشریف لا میں تو وہ ان پر ایمان لا میں گے اور ان کی ہر طرح سے مذکور ہیں گے۔ قرآن حکیم کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ، و تعالیٰ اس روزِ سعید کی عظمت اور شان و شوکت کا ذکر فرمائے ہے۔ اہل ایمان سے یہ آیت مبارکہ نہایت غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

”وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لِمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ۝ قَالَ إِنَّمَا أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيٌّ ۝ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۝ قَالَ فَاَشْهَدُوْا وَإِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِيدِينَ ۝“

ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ قسم ہے تمہیں اس کی جو دوں میں تم کو کتاب و حکمت سے پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہو ان (کتابوں) کی جو تمہارے پاس ہیں تو تم ضرور ایمان لانا اُس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اُس کی (اس کے بعد) فرمایا: کیا تم نے اقرار کر لیا اور اٹھا لیا تم نے اس پر میرا بھاری ذمہ؟ سب نے عرض کیا: ہم نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا: تو تم گواہ رہنا اور میں (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

نامور سیرت نگار اور مفسر حضرت پیر محمد کرم شاہ الا زہری علیہ الرحمہ نے تفسیر ”ضیاء القرآن“ کی جلد اول کے صفحہ 248 پر اس آیت مبارکہ کا مذکورہ بالاترجمہ کرنے کے بعد اس کی تفسیر کے ضمن میں یہ اہم روایت درج کی ہے کہ ”حضرت سیدنا علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اس کی موجودگی میں بس رو عالم و عالمیاں محمد رسول اللہ ﷺ دنیا میں تشریف لے آئیں تو اس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور ﷺ کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف

حاصل کرے اور ہر طرح سے حضور ﷺ کے دین کی تائید و نصرت کرے اور تمام انبیاء کرام نے یہی عہد اپنی اپنی امتوں سے لیا۔

اسی میثاق کی وجہ سے تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کو حضور نبی مکرم ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری کا انتظار رہتا تھا اور وہ تمدن کیا کرتے تھے کہ کاش انہیں حضور رحمتِ دو جہاں ﷺ کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہو۔ وہ اپنی کتابوں میں موجود حضور پر نور ﷺ کی علامات اور نشانیاں اپنی اپنی قوم کو بتاتے رہتے تھے۔ وہ میلاد النبی ﷺ کی رات اور آپ ﷺ کے اسم مبارک احمد سے بھی اپنی امتوں کو مسلسل آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اس وجہ سے یہود و نصاریٰ کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے آخری رسول مکرم ﷺ کے میلاد مبارک کی گھری سے پوری آگاہی تھی بلکہ وہ آپ کی تشریف آوری کا شدت سے انتظار بھی کیا کرتے تھے۔

ممتاز محدث و سیرت نگار محمد بن سعد بن منتع الہاشمی المعروف با بن سعد رحمۃ اللہ علیہ (178-230ھ) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الطبقات الکبریٰ“ کی جلد اول کے صفحات 159-160 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت درج کی ہے کہ قریظہ، نضیر، فدک اور خیر کے یہودی نبی اکرم ﷺ کی علامات و صفات سے خوب آگاہ تھے اور مدینہ منورہ کے یہودی بھی آپ ﷺ کی بعثت سے پہلے ہی آپ ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری اور نزول وحی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، چنانچہ جس روزِ سعید میں سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت با سعادت ہوئی اُس روز یہودی علماء ہر ایک سے کہہ رہے تھے کہ آج رات کو احمد (مرسل) پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس کا ذکر آپ ﷺ کی ولادت با سعادت کی نشانی کے طور پر ہماری کتاب میں آیا ہے۔ ابن سعد مزید کہتے ہیں کہ حضور نبی آخر الزمان ﷺ کی ولادت با سعادت کو یہودی فوراً ہی جان گئے تھے مگر آپ ﷺ سے بعض وحدت کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں جن کی دنیا میں تشریف آوری سے انہیں آگاہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہودیوں کی اس روشنی کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:-

الَّذِينَ أَتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْرُفُونَهَا كَمَا يَعْرُفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيَكُتُمُونَ الْحَقَّ ۖ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (البقرة: 146) ترجمہ: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ پہچانتے ہیں انہیں (محمد رسول اللہ ﷺ کو) جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔

اور بے شک اُن میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔

یہی آیت **أَبْنَاَنَّهُمْ** کے کلمات تک دوبارہ سورۃ الانعام کی 20 ویں آیت کے طور پر قرآن حکیم میں آئی ہے یہاں پر مفسر قرآن حضرت پیر محمد کرم شاہ الا زہری علیہ الرحمہ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی ہے کہ

”اہل مکہ نے اہل کتاب سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے آپ ﷺ کے متعلق اپنی علمی کا اظہار کیا۔ اس آیت میں اُن کا رد ہے کہ اُن کا انکار علمی کی وجہ سے ہیں بلکہ ہٹ دھرمی اور عناد کی وجہ سے ہے ورنہ وہ ہمارے نبی ﷺ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ہجرت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے متعلق حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ (جو قبول اسلام سے پہلے یہودی تھے اور تورات کے بڑے ماہر تھے) سے پوچھا کہ تم حضور ﷺ کو کیسے پہچانتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور ﷺ کے اوصاف و کمالات اور علامات و نشانات اتنی وضاحت سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب ہم نے حضور ﷺ کو دیکھا تو یوں پہچان لیا جیسے ہم اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ آخر میں حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم! میں تو اپنے بچے سے بھی زیادہ حضور ﷺ کو پہچانتا ہوں کیونکہ مجھے اپنے بچے کی ماں پر اتنا اعتماد نہیں جتنا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی علامات پر ہے۔“ (ضیاء القرآن، جلد 1، صفحہ 543)

محمد و سیرت نگار ابن سعد رحمۃ اللہ نے موسیٰ بن یعقوب الزَّمِعی کی روایت سے ہل مولیٰ بشیمہ کا یہ اہم واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ اہل مریس میں سے ایک معروف عیسائی عالم تھا اور وہ انجیل پڑھتا رہتا تھا، اُس نے بیان کیا ہے کہ انجیل میں نبی آخرالزمان ﷺ کا ذکرِ خیر موجود ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے اور اُن کا اسم مبارک احمد ہوگا۔ (الطبقات الکبریٰ، جلد 1، صفحہ 104)

ان شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ تمام انبیاء و مرسیین علیہم السلام ہزاروں سالوں سے اپنی امتوں کو فخرِ موجودات حضور نورِ مجسم ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری کے روزِ سعید سے آگاہ فرماتے رہے ہیں۔

اس لئے یہ مبارک دن جسے اہل ایمان عید میلاد النبی ﷺ کے طور پر مناتے ہیں، اس کی عظمت و افضلیت مذکورہ بالا ذنوں آیات سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ یہود و نصاریٰ کا شیوه ہے کہ اس دن کی اہمیت کو کم کیا جائے جبکہ ایمان والوں کو اس ایک یوم ولادت مصطفیٰ ﷺ کی وجہ سے باقی تمام نعمتیں عطا ہوئی ہیں۔ حضور نبی رحمت ﷺ دنیا میں تشریف لائے تو بعثت ہوئی، بعثت ہوئی تو قرآن حکیم نازل ہوا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کی تفسیر اور وضاحت احادیث مبارکہ سے ہوئی۔ حضور ﷺ تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی مبارک جماعت وجود میں آئی۔ سیرت طیبہ قرآن فہمی کا اساسی ذریعہ بنی، آپ ﷺ کی تشریف آوری سے کفر و بُت پرستی کی جگہ انسانیت اللہ وحده لا شریک له کی عبادت کی لذت سے آشنا ہوئی۔ سینکڑوں صدیوں سے ظلم و نا انصافی اور جہالت و گمراہی میں بھٹکتی انسانیت کو صراطِ مستقیم نصیب ہوئی۔ حضور اکرم ﷺ تشریف لائے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تشنہ تکمیل رہنے والا دین اپنے کمال کو پہنچا۔ یہ اور دیگر بے شمار نعمتیں جس خاتم النبیین ﷺ کی تشریف آوری کی وجہ سے حاصل ہوئیں، اُس کا یوم ولادت منانا ان سب نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ سب نعمتوں کا منع و سرچشمہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے جس کی بشارتیں تمام انبیاء علیہم السلام دیتے رہے ہیں۔

خود سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء اپنی ولادت با سعادت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے ہر سو ماواز کو روزہ رکھتے تھے۔ ”صحیح مسلم“ کی حدیث نمبر 2750 اور سنن اُبی داؤد کی حدیث نمبر 2426 سنتِ مطہرہ سے میلاد النبی ﷺ منانے پر ناقابل تردید دلیل ہے۔ حضرت ابو قادہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہر سو ماواز کو روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ جاننے کے لئے آپ ﷺ سے سوال کیا گیا تو حضور نبی مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک دن میں میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ حدیث مبارک کے ایمان افروز کلمات ملاحظہ فرمائیے:

”عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ عَنْ صَوْمِ الْأَثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: فِيهِ وُلْدُثٌ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ“:

اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے والوں کیلئے

عید میا دالبی ﷺ منانے کے شرعی جواز پر یہ حدیث مبارک اور اسوہ حسنہ اطمینان قلب کے لئے کافی دلیل اور محبت ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنا یوم ولادت روزہ رکھ کر اور اس نعمت پر شکر کر کے منایا کرتے تھے۔ اسی لئے عید میا دالبی ﷺ منانا اتباع سنت ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے آقا حضور نبی اکرم ﷺ کے ہر عمل مبارک اور ہر درباراً کو حزر جان بناتے تھے۔ انہی کے ذریعے ہمیں قرآن حکیم، احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مبارک واقعات معلوم ہوئے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے الفاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جستجو و اشتیاق کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے اسوہ حسنہ کے دیگر پہلوؤں کی طرح ہر سموار کو روزہ رکھنے کے سبب سے بھی آگاہ ہونا چاہتے تھے تا کہ حضور ﷺ کے اس معمول مبارک پر بھی عمل پیرا ہو سکیں۔ کیونکہ وہ اس ارشاد باری تعالیٰ کی وجہ سے بھی ہر سموار کو روزہ رکھنا اسوہ حسنہ پر عمل کا تقاضا جانتے تھے کہ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورہ الحزاب: 21)

(بلاشبہ تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ عمل ہے) پھر یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میا دالبی ﷺ نہیں مناتے تھے۔ بلکہ وہ ہم کمزور مسلمانوں کی طرح ہر سال صرف ماہ ربیع الاول میں میا دمنانے کے بجائے ہر سموار کو روزہ رکھ کر حضور رحمت دو جہاں ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں کوئی روایت ایسی بھی نہیں ملتی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے آقا ﷺ کی اس سنت پر عمل نہ کیا ہو یا انہوں نے حضور ﷺ کی ولادت باسعادت کو شکر الہی کا موقع نہ جانا ہو۔ ایسا سوچنا بھی محال ہے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ قرآن حکیم کی اس آیت اور اس کے تقاضوں سے آگاہ تھے۔ ارشاد باری ہے:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوُّ أَعْلَيْهِمْ أَلِيَّهُ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (سورہ آل عمران: 164)

ترجمہ: (یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے)

اس انتہائی معنی خیز آیت مبارکہ میں صاف طور پر جتنایا گیا ہے کہ اہل ایمان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس واطھر ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں کتاب و حکمت (یعنی سنت مبارکہ) وغیرہ جن انعاماتِ ربانی کا ذکر خیر آیا ہے، وہ سب اسی نعمتِ عظیمی کی بدولت حاصل ہوئے ہیں۔ حافظ الحدیث شہاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد القسطلاني (851-923ھ) ”المواھب اللدنیۃ“ میں حضرت عبدالمطلب کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں: ”وَلَدَ لِی اللَّیلَةَ مَعَ الصُّبْحِ مَوْلُودٌ“ آج کی رات جب صحیح میں داخل رہی تھی تو میرا بیٹا (پوتا) پیدا ہوا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام قسطلاني فرماتے ہیں کہ جس راتِ حضور نبی مکرم ﷺ کی ولادتِ باسعادت ہوئی وہ راتِ تین وجوہ سے لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔

☆ پہلی وجہ یہ ہے کہ ولادتِ باسعادت کی راتِ نبی اکرم ﷺ کے ظہور یعنی اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے کی رات ہے جبکہ لیلۃ القدر آپ ﷺ کے لئے ایک تحفہ اور عطا ہے ربانی ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ کو اس رات کی وجہ سے شرف و عظمت نہیں ملی بلکہ اس رات کو حضور ﷺ کی وجہ سے قدر و منزلت حاصل ہوئی اور اس میں کوئی اختلاف آراء نہیں اس بنیاد پر ولادتِ باسعادت کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔

☆ دوسری وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اس میں فرستوں کے نزول کی وجہ سے قدر و منزلت حاصل ہوئی جبکہ میلادِ مصطفیٰ ﷺ کی رات کو حضور سید المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ظہور قدسی ہوا۔ جس ہستی سے میلاد کی رات کو شرف بخشنا گیا، وہ افضل ہے اُن فرستوں سے جن سے لیلۃ القدر کو شرف عطا ہوا اس پر جمہور اہلسنت کا اجماع ہے۔ لہذا میلاد النبی ﷺ کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے۔

☆ تیسرا وجہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت صرف امتِ محمدیہ علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے جبکہ میلاد شریف کی رات کی فضیلت ساری موجودات کے لئے ہے کیونکہ آپ ﷺ کی ذاتِ اقدس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو حضور ﷺ کی وجہ سے یہ نعمتِ رحمت تمام مخلوقات کے لئے ہے اس وجہ سے میلاد النبی ﷺ کی رات کی برکتیں لیلۃ القدر سے زیادہ اور عام ہیں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے

کہ میلاد النبی ﷺ کی رات لیلة القدر سے افضل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں اپنی نہایت اہم نعمتوں کا ذکر بڑے ایمان افروز انداز میں فرمایا ہے اور اکتیس (31) بار ان آیات کا اختتام اس آیت مبارکہ پر کیا ہے۔

”فَبِأَيِّ الَّاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبُنِ“ تو (اے انسانو اور جنو!) تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھلاؤ گے۔ قرآن حکیم نے بے شمار مواقع پر انعامات رباني کا شکر ادا نہ کرنے پر عذاب الہی سے ڈرایا ہے۔ اپنی بے شمار نعمتوں میں سے صرف نبی اکرم ﷺ کی صورت میں اپنی عظیم ترین نعمت پر ہی رب العزت نے ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔۔۔ اخ دالا اسلوب اختیار فرمایا ہے۔ یہ اس حقیقت کا اظہار ہے کہ خاصہ خاصان رسول احمد مرسل ﷺ کا یوم ولادت سب نعمتوں سے بڑی نعمت عطا ہونے کا روز سعید ہے یہ دن ہر اعتبار سے تقاضا کرتا ہے کہ اسے عید میلاد النبی ﷺ کے طور پر منایا جائے۔ اسے نظر انداز کر کے کفر ان نعمت نہ کیا جائے کفر ان نعمت کی روشن ترک کرنے کے لئے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سورۃ الرحمن میں انسانوں اور جنوں کو اکتیس بار۔ ”فَبِأَيِّ الَّاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبُنِ“ فرمایا کرتے ہیں۔ کیونکہ یہی دو مکلف انواع ہیں۔ نوع انسانی اور نوع جن۔ ابھی کو عقل عیار انکار اور ناشکری پر ابھارتی اور دلیل و معجزات طلب کرنے پر اکساتی ہے۔ باقی سب مخلوقات اپنے رب کریم کی تسبیح و تمجید میں ہر لمحہ مشغول رہتی ہیں۔ مگر انسان بڑا حضرت ہے اپنے خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت (سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ) عطا فرمائے جانے پر بھی شکر سے انکار کر دیتا ہے، دلیل مانگتا ہے کہ آخر کیوں شکر کروں، حیرت ہے اُن اہل عقل پر جو سیرت کا نفرنس تو کرتے ہیں مگر صاحب سیرت (ﷺ) کی عید میلاد النبی ﷺ کو بدعت قرار دیتے ہیں کہ یہ عہد نبوی میں نہیں منایا گیا۔ وہ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر خاتم النبیین (ﷺ) زندہ باد کو شرک قرار دیتے ہیں۔ وہ ہر سال بڑے اہتمام سے مسجدوں میں چراغاں کر کے جشن نزول قرآن تو مناتے ہیں مگر حامل قرآن کی دنیا میں تشریف آوری کے جشن یعنی عید میلاد النبی ﷺ کے نام سے ہی تملماً اٹھتے ہیں۔ معراج النبی (ﷺ) کا نفرنس بڑے شوق سے کرتے ہیں مگر صاحب معراج کے ذکر جمیل کا موقعہ آتا ہے تو زبان اور قلم دونوں خشک ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں عید میلاد النبی ﷺ منانے کے لئے کسی شرعی دلیل کا انتظار نہیں

بلکہ ان کا مسئلہ اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اس کے شرعی جواز کے لئے تو اس حدیث مبارک سے بھی اطمینان قلب حاصل ہو سکتا ہے۔

امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بحستانی رحمۃ اللہ (202-275ھ) نے ”سن ابی داؤد“ کے باب ”فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ“ میں حدیث نمبر 2444 یوں درج فرمائی ہے ”عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ، فَسُئَلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَظْهَرَ اللَّهُ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيْمًا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ أُولَئِي بِمُوسَى مِنْكُمْ وَأَمْرَ بِصِيَامِهِ۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا جب نبی اکرم ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے یہودیوں کو عاشورہ (۱۰ محرم الحرام) کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مویٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ و فتح سے نوازا تھا اور ہم اس دن کی تعظیم کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم مویٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں اور حضور ﷺ نے اس روز روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

یہی حدیث مبارک الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسنده احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے۔ یہاں یہ واضح ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے مویٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے کی خوشی اور اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر یوم عاشورہ کو خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

اہل ایمان خوب سمجھتے ہیں کہ اگر ایک فرعون پر غلبہ و فتح اور اس سے حضرت مویٰ علیہ السلام کے نجات پانے کی خوشی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا یہ عالم ہے تو جس روزِ سعید میں وہ خاتم النبیین سید المرسلین ﷺ اس بزم عالم میں رونق افروز ہوئے جنہوں نے سارے کفر و شرک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور نورِ بدایت سے اس دنیا کو قیامت تک کے لئے منور فرمادیا، وہ روزِ سعید وہ عید میا ادا النبی ﷺ خوشیوں، شاد مانیوں، اور شکرِ الہی کے ہم سے کیا کیا تقاضے کرتا ہے۔ عید میا ادا النبی ﷺ کی ہر تقریب سعید کا آغاز دنیا بھر کے اہل

ایمان تلاوت قرآن حکیم سے کرتے ہیں کہ یہ بھی حمد باری تعالیٰ کا ایک مبارک انداز ہے، پھر حضور نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کے ایمان افروز واقعات بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول رسول ﷺ کی بارگاہ اقدس واطہر میں مدحت و نعمت کے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ احادیث اور سیرت طیبہ کی انتہائی معتبر کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک اعمال کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ ایک سو بیس (120) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نعتیہ اشعار تاریخ شعروادب کا حصہ ہیں۔ ان پر فتوی لگانے کا شوق پورا کرنے کا تو حوصلہ کسی میں نہیں ہوتا مگر وہ اہل ایمان جو آج انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی اکرم ﷺ کے حضور نعمت کے نذر انے پیش کرتے ہیں، ان کو اہل فتوی بخشنے کو تیار نہیں۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ان حضرات کو شرعی جواز کا مسئلہ نہیں بلکہ ان کا مسئلہ کچھ اور ہی ہے۔

سیرت طیبہ کی اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ چھٹی صدی ہجری سے اب تک دنیا بھر کے اہل اسلام عید میلاد النبی ﷺ موجودہ انداز و طریقہ سے منار ہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ روزِ سعید اس طرح منائے جانے کی مثال نہیں ملتی۔ ان کتابوں کے مطابق سب سے پہلے اربل کے بادشاہ الملک المنظر ابوسعید (م 630ھ) نے اس کا آغاز کیا تھا۔ ان کتابوں میں اس کی جانب سے عید میلاد النبی ﷺ کی سالانہ تقریبات میں انواع و اقسام کے کھانے کھلانے اور فیاضوں کا تذکرہ بھی تحسین کے انداز میں اور کچھ کتابوں میں بدعت کے طور پر آیا ہے مگر اس جانب شاید ہی کسی نے توجہ کی ہو کہ یہ سرکاری اور حکومتی سطح پر جشنِ عید میلاد النبی ﷺ منائے جانے کے آغاز کا تاریخی حوالہ و ثبوت ہے۔ انفرادی سطح پر مذکورہ صدر حدیث مبارک ”فِيهِ وُلْدُثُ وَفِيهِ اُنْزَلَ عَلَيْ“ سننے کے بعد سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہر سو ماہ کو روزہ رکھ کر عید میلاد النبی ﷺ مناتے رہے ہیں اور ان فیاض ہستیوں کی وجہ سے، ہی بعد میں آنے والے مسلمانوں میں اس مبارک دن فیاضی کا جو ہر آیا ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہی قرآن حکیم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے بھی اولین مخاطب تھے۔ ارشادر بانی ہے: **قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ** ۰ ترجمہ: اے جیب! آپ فرمائیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے اور پس چاہیے کہ اس پر خوشی منا میں یہ بہتر ہے اُن تمام چیزوں سے جن

کو وہ جمع کرتے ہیں۔

ممتاز سیرت نگار حضرت پیر محمد کرم شاہ الا زہریؒ لکھتے ہیں کہ ”اس آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اُس کی رحمت ہو تو منہ ب سور کرنے بیٹھ جایا کرو، اپنی ہانڈیوں کو اوندھانہ کر دیا کرو۔ جو چراغِ جل رہا ہے، اُس کو بھی نہ بجھادیا کرو کیونکہ یہ اظہارِ تشكیر نہیں بلکہ کفر ان نعمت ہے۔ ایسا نہ کرو بلکہ ”فَلَيَفْرَحُوا“، خوشی اور مسرت کا مظاہرہ کیا کرو۔ (ضیاء النبی ﷺ، جلد 2، صفحہ 46)

معروف محدث و سیرت نگار ابو الفتح محمد بن محمد بن سید الناس العجمی رحمہ اللہ (م 734ھ) سیرت نبویہ پر اپنی شہرہ آفاق کتاب ”عيون الاثر فی فنون المغازي والشمائل والسير“ میں لکھتے ہیں کہ محدث ابو عبد الرحمن بقی بن مخلد رحمہ اللہ (م 276ھ) نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے:- ”أَنَّ إِبْلِيسَ لَعْنَةُ اللَّهِ رَبِّنَا أَرْبَعَ رَنَاتٍ :رَنَةٌ حِينَ لَعِنَ، رَنَةٌ حِينَ أَهْبَطَ وَرَنَةٌ حِينَ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَنَةٌ حِينَ أُنْزِلَتْ فَاتِحةُ الْكِتَابِ“ (جلد 1، صفحہ 82)

یعنی ابلیس اپنی پوری عمر میں چار مرتبہ چخ مار کر رویا۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اُس پر لعنت و پھٹکار بھیجی، دوسری بار وہ اُس وقت چخ مار کر رویا جب اُس کو اپر سے نیچے دھکیلا گیا، تیسرا مرتبہ وہ اُس وقت چخ مار کر رویا جب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ﷺ کی ولادت با سعادت ہوئی، چوتھی بار اُس وقت وہ چخ مار کر رویا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید میلاد النبی ﷺ پر خوشیاں ہی منانی چاہیں، حضور نبی اکرم ﷺ کی اس دنیا میں تشریف آوری پر اور حضور ﷺ کا امتی ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہی خوش بختی کی دلیل ہے۔ اس روز سعید کے آنے پر تسلیمانا، ناک منه چڑھانا اور چخ و پکار کرنا شیطان کا شیوه ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے عظیم ترین احسان میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء پر شکر کا حق ادا کرنے کی سعادتوں سے بہرہ ور فرمائے۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحیہ وبارک وسلام۔

شائع کردہ

مرکزی انجمن عاشقان رسول ﷺ

صلی اللہ علیہ وآلہ واصحیہ وسلام

قریٰ النورین نعیی

جامع مسجد نعیمیہ انوار حبیب 3/10 G-6 گلی نمبر 6 اسلام آباد

جزل یکروی ساجد محمود قادری